



An ICTSI Group Company

Pakistan International Container Terminal Limited

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

August 30, 2019
PICT/CS/0819/017

NOTICE OF BOOK CLOSURE FOR SECOND INTERIM CASH DIVIDEND AND NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR CNIC/NTN & E-DIVIDEND MANDATE

Dear Sir

Please find enclosed herewith a copy of newspapers clipping relating to notice of Book Closure for Second Interim Cash Dividend for the year ending 2019 and Notice to Shareholders for CNIC/NTN & E-Dividend Mandate which has been published in The Nation (English) and Dunya (Urdu) on August 30, 2019.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely

For and on behalf of
Pakistan International Container Terminal Limited



Adil Siddique
Company Secretary

Encls:

Berths 6 to 9, East Wharf
Karachi Port - Pakistan
Tel: +92 21/ 3285 5701-14
Facsimile: +92 21/ 3285 4815
URL: www.pict.com.pk
UAN : +92 21 111-117-428
E-Mail: info@pict.com.pk

The Nation

Zilhaj 28, 1440
FRIDAY,
August 30, 2019



Pakistan International Container Terminal Limited

ANNOUNCEMENT OF SECOND INTERIM CASH DIVIDEND AND NOTICE OF BOOK CLOSURE AND NOTICE TO SHARE HOLDERS FOR CNIC/NTN & E-DIVIDEND MANDATE

We are pleased to inform all our valued shareholders of the company that the Board of Directors of Pakistan International Container Terminal Limited in its meeting held on **August 20, 2019** declared second interim cash dividend of Rs. 4/- per ordinary share i.e. 40% for the year ending December 31, 2019. The second interim cash dividend will be paid to those shareholders whose names will appear in the Register of Members of the company at the close of business on September 14, 2019.

The share transfer books of the company will remain closed from September 15, 2019 to September 21, 2019 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, "M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', SMHS, Main Shahr-e-Faisal, Karachi - 74400", by the close of business on September 14, 2019 will be treated in time for the purpose of a certifying the entitlement of transferees for payment of interim dividend.

Shareholders are requested to promptly notify change of registered postal address if any to the Company's share registrar.

Shareholders are also requested to provide the following information to enable the company to comply with the directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Federal Board of Revenue (FBR).

MANDATORY PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE AND SUBMISSION OF COPIES OF VALID CNIC & NATIONAL TAX NUMBER (NTN) CERTIFICATE

- The provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the information on a Dividend mandate form to the Company's Share Registrar at the address given herein above. In case of CDC account holders, the same information should be provided directly to the CDS participant. The Company or its Share Registrar cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. The form is also available at the Company website i.e. www.pict.com.pk.
- The designated bank account details should be of the titleholder of the shares or Account title in Central Depository System.
- The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC and Corporate Entities who have not yet submitted their NTN are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share registrar at the address given herein above, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with the copy of CNIC / NTN.
- In case of non-receipt of valid Bank details given herein above and copy of valid CNIC or NTN, the Company would withhold future dividend payments to such shareholders as per the provisions of section 243(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

FILER AND NON-FILER STATUS

- The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as per law.
- To enable the Company to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into Active Tax-Payers List (ATL), despite the fact that they are filers are advised to make sure that their names are entered into ATL available at e-portal of Federal Board of Revenue ("FBR"), before the date of commencement of book closure for cash dividend. The Company as per the law shall apply 30% rate of withholding tax if the shareholder's name with relevant details does not appear on the latest available ATL on the FBR website on first day of the book closure and deposit the same in the Government Treasury as this has to be done within the prescribed time.
- Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to the Company's share registrar by September 14, 2019.
- The FBR has clarified that holders of shares held in joint names or joint accounts will be treated individually as either filers or non-filers and tax will be deducted according to the proportionate holding of each holder. All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Shares Registrar, in writing as follows:

Folio / CDS Account No	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder		CNIC No.	Signature
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of shares)		

The required information must reach our Share Registrar by the close of business on September 14, 2019; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s) and deduction of withholding tax will be made accordingly.

SUBMISSION OF ZAKAT EXEMPTION

Members are requested to submit declaration as per Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for Zakat exemption by September 24, 2019, if any.

Karachi
August 30, 2019

By order of the Board of Directors
Adil Siddique
Company Secretary



پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل لمیٹڈ



دوسرے عبوری منافع منقسمہ کا اعلان اور

نوٹس برائے بک کلوڑ اور حصص یافتگان کو CNIC اور ڈیوڈنڈ مینڈیٹ کے لئے نوٹس

ہم کہتی ہیں کہ تمام حصص یافتگان کو برسرِ مطلع کرتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل لمیٹڈ کے مورچہ 20 اگست 2019 کو منعقد ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے 40 فیصد دوسرے عبوری منافع منقسمہ کا اعلان کیا گیا ہے جو فی حصص 4 روپے بنتا ہے۔ دوسرے عبوری منافع منقسمہ ان حصص یافتگان کو ادا کیا جائے گا جن کے نام ہماری کمپنی کے رجسٹر میں مورچہ 14 ستمبر 2019 کو موجود ہوں گے۔

کمپنی کی حصص کی منتقلی کے کما 15 ستمبر 2019 تا 21 ستمبر 2019 (بشمول دونوں قیام) اس منافع منقسمہ کی نامزدگی کے لئے بند رہیں گے۔ جس دوران دونوں کے لئے کسی بھی حصص کی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حصص کی منتقلی کی دہر غرضیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئر رجسٹر کے دفتر میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ شیئر رجسٹرار ڈیپازٹری، بی ڈی ایس ہاؤس، 99 بلاک بی، ایس ایچ ایف، این ٹین شاہراہ فیصل، کراچی پر 14 ستمبر 2019 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہوگی ان کو اس منافع منقسمہ کی ادائیگی کیلئے بروقت شمار کیا جائے گا۔

حصص یافتگان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتے میں کسی تبدیلی (اگر ہو) کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

حصص یافتگان سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات مہیا کریں تاکہ کمپنی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور وفاقی بورڈ آف ریونیو کی ہدایات پر عمل کر سکے۔

نقد تقسیم شدہ منافع کی لازمی ادائیگی بزرگ لیڈ انویسٹرک موڈ اور سی این ای سی اور قومی ٹیکس نمبر [این ٹی این] سرٹیفکیٹ کی کاپی کو پیش کرنا
یکمبیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت، تمام ایکمبیز کو اپنے نقد تقسیم شدہ منافع کی رقم کو حصص یافتگان کے منتخب شدہ بینک کے خاتے میں براہ راست الیکٹرانک موڈ کے ذریعے جمع کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے مطابق، ہماری حصص رکھنے والے حصص یافتگان اپنی معلومات ڈیوڈنڈ تقسیمیں کردہ اختیار کے نام (منسلک) کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے مندرجہ بالا پتے پر ارسال کریں۔ سی ڈی سی خاتے کی صورت میں وہی معلومات براہ راست سی ڈی ایس کے ذریعے جمع کرائیں گے۔ کمپنی یا اس کا شیئر رجسٹرار ان اراکین کے بینک کی تفصیلات یا بینک کے تفویض کردہ اختیار میں تبدیلی کی درخواست پر عمل نہیں کر سکتا جن کے پاس الیکٹرانک شکل میں حصص موجود ہوں۔ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pict.com.pk پر بھی موجود ہے۔

نامزد بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حصص کے عنوان دار یا سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے عنوان سے ہونا چاہئے۔ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے مورچہ CNIC اور کارپوریٹ ادارے جنہوں نے ابھی تک اپنے NTN کی فوٹو کاپی پیش نہیں کی ہے ان کا ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جارہی ہے کہ وہ مندرجہ بالا شیئر رجسٹرار کے پتے پر جلد از جلد ارسال کریں۔ براہ مہربانی CNIC / NTN کی نقل کے ساتھ فوٹو کاپی بھی دیں۔

ہم ایکمبیز ایکٹ 2017 کو ایکمبیز (ڈیپازٹری آف ڈیوڈنڈ ریکویشن 2017) کے ضوابط 6 کے تحت بینک کی مورچہ تفصیلات اور مورچہ CNIC / NTN کی کاپی نہ کرانے کی صورت میں کمپنی ممبر کے مستقبل کے تقسیم شدہ منافع کو روکنے کی اجازت ہے۔

فاکٹر اور لون فاکٹر کی قانونی وضع

حکومت پاکستان نے ایکمبیز آئین 2001 کی دفعہ 150 میں بعض ترمیمات کی ہیں، جس کے ذریعے کمپنیوں کی طرف سے ادا کئے جانے والے منافع کی رقم پر دو ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی کیلئے مختلف شرح مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہیں۔ اس خاطر کے نقد منافع کی رقم پر ٹیکس کی درست کوئی کی جائے، تمام حصص یافتگان، جن کا نام فیکل ٹیکس ادا کرنا ہوا ہے، فیکل ٹیکس (اے۔ ٹی۔ ایل) میں درج نہیں کئے گئے، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فاکٹر ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نقد منافع کے اخراجات کیلئے اگے نام لے لی۔ ایل میں درج ہوں، جو کہ وفاقی بورڈ آف ریونیو کے ای۔ پیوٹل میں درج ہے۔ کمپنی قانون کے مطابق 30% (تین فیصد) کی دو ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کا اطلاق کرے گی اگر ہمیں ہولڈنگ کا نام متعلقہ تفصیلات کے ساتھ پیش اسے۔ ٹی۔ ایل میں موجود ہو کیونکہ ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کرایا جاتا ہے مقررہ وقت کے اندر ضروری بندش کے پھیلدن اسے۔ ٹی۔ ایل میں موجود نہ ہو کیونکہ ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کرایا جاتا ہے مقررہ وقت کے اندر ضروری ہے۔ نقد منافع کی رقم پر دو ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی سے استثنائی اجازت تب دی جائے گی جب درست ٹیکس استثناء کے شمولیت کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس 14 ستمبر 2019 تک جمع کرائی گئی ہو۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی طرف سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق جو انٹ اکاؤنٹ کی صورت میں دو ہولڈنگ ٹیکس کا حساب فائبر این فائبر کے لیے پرنسپل حصص ہولڈر اور جو انٹ حصص ہولڈرز کے لیے ان کی حصص ہولڈنگ کے تناسب سے علیحدہ کیا جائے گا۔ وہ تمام حصص یافتگان جو مشترکہ طور پر حصص کے حامل ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جو انٹ شیئر ہولڈر کی حصص ہولڈنگ کے تناسب کے اندر درج ذیل طریقے پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریر کے طور پر فراہم کریں:

پرنسپل شیئر ہولڈر	جو انٹ شیئر ہولڈر	قومی شناختی کارڈ نمبر	دستخط
نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	شیئر ہولڈنگ کا تناسب
(شیئر زکی تعداد)	(شیئر زکی تعداد)		

مطلوبہ معلومات 14 ستمبر 2019 کو کاروبار کے بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کرادیں بصورت دیگر یہ فرض کیا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جو انٹ شیئر ہولڈر مساوی طور پر حصص کے حامل ہیں۔

ذکوہ سے استثناء کی درخواست

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ کوکڑ اور مشن آؤٹ گیس 1980 کے مطابق ذکوہ سے استثناء کے لئے اقرار نامہ جمع کرا دیں۔

بجگم پورڈ
عادل صدیق
کمپنی سیکریٹری

کراچی

30 اگست 2019